

Paper Code

Number: 2701

2019 (A)

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - I (کلاس گیارہویں)

MTN-11-G1-19

PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-I  
(NEW SCHEME) (COMMERCE GROUP)

TIME ALLOWED: 30 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

MAXIMUM MARKS: 20

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ جمالی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے مچھو کر ایک سے زیادہ دائروں کو نہ مچھو کر یا کٹ کر نہ مچھو کر یا صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو نہ مچھو کر یا صورت میں کوئی غلطی ہو جائے گا۔ اس سوال پرچہ پر سوالات پر گزرتے نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

سوال نمبر 1-

- Q.No.1
- (1) Withdrawal of cash or goods for personal use are called:  
(A) Sales فروخت (B) Purchases خرید (C) Drawings برداشتی (D) Capital سرمایہ
  - (2) Discount allowed on list price is called:  
(A) Trade discount تھمارائی کوٹنی (B) Commission کمیشن (C) Rebate مہرٹ (D) Cash discount نقد کوٹنی
  - (3) Real account relates to:  
(A) Assets اثاثہ جات (B) Expenses اخراجات (C) Income آمدن (D) Profit & loss نفع و نقصان
  - (4) Amount needed for commencement of business is called:  
(A) Trade تجارت (B) Capital سرمایہ (C) Welfare فلاح (D) Drawing برداشتی
  - (5) A deal of goods between two persons is called:  
(A) Transaction معاملہ (B) Book-keeping حسابداری (C) Accounting اکاؤنٹنگ (D) Voucher روچ
  - (6) Capital is equal to:  
(A) Assets اثاثہ جات (B) Liabilities واجبات (C) Assets - Liabilities اثاثہ جات - واجبات (D) Liabilities واجبات
  - (7) Primarily transactions are recorded in:  
(A) Day-book روزنامہ (B) Balance sheet بیلنس شیٹ (C) Trial balance ٹریل بیلنس (D) Ledger لیجر
  - (8) Goods given away as charity will be credited to:  
(A) Charity account خیرات اکاؤنٹ (B) Sales account فروخت اکاؤنٹ (C) Drawing account برداشتی اکاؤنٹ (D) Purchases account خرید اکاؤنٹ
  - (9) Posting means transfer of transactions into:  
(A) Trial balance ٹریل بیلنس (B) Journal جرنل (C) Balance sheet بیلنس شیٹ (D) Ledger لیجر
  - (10) Person who draws the bill is called:  
(A) Holder حامل (B) Payee وصول کنندہ (C) Drawee مرقب الیہ (D) Drawer مرقب کنندہ
  - (11) Number of parties involved in a Bill of Exchange is:  
(A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
  - (12) Payment of a Bill of Exchange before due date is called:  
(A) Dishonour مسردگی (B) Discounting بدگلوئی (C) Renewal تجدید (D) Retiring سبکدوشی
  - (13) Cash sales will be recorded in:  
(A) Cash Book میں (B) Sales Book فروخت بک میں (C) Purchase Return Book واپسی بک میں (D) Purchase Book خرید بک میں
  - (14) While preparing final account, indirect expenses are recorded in:  
(A) Profit & loss account نفع و نقصان اکاؤنٹ (B) Trial balance ٹریل بیلنس (C) Balance sheet بیلنس شیٹ (D) Trading account ٹریڈنگ اکاؤنٹ
  - (15) Entry that is recorded on both sides of cash-book is called:  
(A) Single Entry اکھرا اندراج (B) Double Entry دوہرا اندراج (C) Contra Entry کنٹرا اندراج (D) Compound Entry مرکب اندراج
  - (16) Marshalling means preparing the:  
(A) Trading account ٹریڈنگ اکاؤنٹ (B) Profit & loss account نفع و نقصان اکاؤنٹ (C) Balance sheet بیلنس شیٹ (D) Bank Reconciliation Statement بینک مٹھاؤ کا بیان
  - (17) Net profit is added in:  
(A) Capital سرمایہ (B) Asset اثاثہ (C) Liability واجبات (D) Expense اخراجات
  - (18) Depreciation is deducted from:  
(A) Relevant Fixed Asset متعلقہ مستقل اثاثہ (B) Relevant Current Asset متعلقہ کرنٹ اثاثہ (C) Both A and B دونوں (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
  - (19) Cost of wages for fixing the plant is:  
(A) Capital Expense سرمایہ خرچ (B) Revenue Expense آمدنی خرچ (C) Differed Expense اتوائی خرچ (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
  - (20) Error that affects Profit and Loss Account relates to:  
(A) Real account حقیقی اکاؤنٹ (B) Nominal account رکی اکاؤنٹ (C) Personal account شخصی اکاؤنٹ (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-I  
(NEW SCHEME) (COMMERCE GROUP)

TIME ALLOWED: 2.30 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.30 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 80

کل نمبر = 80

نوٹ: - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوال پرچے میں درج ہے۔  
NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

## SECTION-I حصہ اول

## 2. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 2- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Define Accounting.
- Define Owner's Equity.
- Define Compound Entry.
- What is Posting?
- Define Cash Receipt Journal.
- What is meant by Contra Entry?
- Define Bank Overdraft.
- Define Current Liabilities.

- حساب نویسی کو بیان کریں۔
- مالک کے سرمایہ کی تعریف کریں۔
- مرکب اندراج کی تعریف کریں۔
- پوسٹنگ کیا ہے؟
- روزانہ نقد وصول کی تعریف کریں۔
- مضرب انٹری سے کیا مراد ہے؟
- بنک اوور ڈرافٹ کی تعریف کریں۔
- موجودہ ذمہ داریوں کی تعریف کریں۔

## 3. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 3- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- What is meant by Cheque Book?
- Define Pay in Slip.
- What is meant by unfavourable balance in cash book?
- Define Profit and Loss Account.
- Define Fixed Assets.
- Define the term Drawee.
- Define Revenue Profit.
- What is meant by error of Principle?

- چیک بک سے کیا مراد ہے؟
- پے این سلپ کی تعریف کیجیے۔
- کیش بک کے ناموافق بیلنس سے کیا مراد ہے؟
- کھاتہ نفع و نقصان کی تعریف کریں۔
- مستقل اثاثہ جات کی تعریف کریں۔
- مرتب الی کی تعریف کریں۔
- مالیاتی منافع کی تعریف کریں۔
- اصول کی غلطی سے کیا مراد ہے؟

## SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

60 = 20 x 3

نوٹ: - کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Prepare accounting equation and enter the following transactions:  
(i) عثمان نے مبلغ 100,000 روپے نقد، اشیا 20,000 روپے اور عمارت کی قیمت مبلغ 700,000 روپے سے سرمایہ کاری کی۔ (ii) مبلغ 20,000 روپے کی اشیا ادھار خریدی۔  
(iii) مبلغ 30,000 روپے کی اشیا ادھار فروخت کیں۔ (iv) مبلغ 10,000 روپے تک میں جمع کروائے۔ (v) مبلغ 10,000 روپے کی اشیا فروخت کرنے والے کو ادا کیے۔  
(vi) مبلغ 2000 روپے کا کرایہ بذریعہ بینک ادا کیا۔ (vii) مبلغ 30,000 روپے کا بک سے وصول کئے۔ (viii) مبلغ 1000 روپے سود بک سے وصول کیا۔ (ix) سالانہ 10% عمارت پر فرسودگی۔ (x) مبلغ 1000 روپے ٹیلی فون کا بل ادا کیا۔  
(i) Usman invested in cash Rs.100,000, goods Rs.20,000 and building Rs.700,000. (ii) Purchased goods on account Rs.20,000 (iii) Sold goods on credit basis Rs.30,000  
(iv) Deposited cash into bank Rs.10,000 (v) Paid cash to supplier of goods Rs.10,000 (vi) Paid rent by cheque Rs.2000 (vii) Received cash from customer Rs.30,000 (viii) Received interest from bank Rs.1000  
(ix) Depreciation of building @ 10% p.a. (x) Paid telephone bill Rs.1000
5. Enter the following transactions in Journal:  
درج ذیل لین دین کو جرنل میں درج کریں۔  
یکم جنوری 2019 کو مبلغ 1,00,000 روپے سے مسز احمد نے کاروبار شروع کیا۔ 2 جنوری کو مبلغ 5000 روپے سے نقد فروز کے لیے فرنیچر خریدا۔ 3 جنوری کو مبلغ 3000 روپے کی اشیا ابراہیم کو فروخت کیں۔ 4 جنوری کو 5 فی صد تجارتی چھوٹ پر مبلغ 10,000 روپے کی اشیا نقد فروخت کیں۔ 5 جنوری کو مبلغ 500 روپے کی اشیا ابراہیم نے واپس کر دیں۔ 10 جنوری کو مبلغ 2000 روپے کی اشیا خیرات میں تقسیم کر دیں۔ 15 جنوری کو مبلغ 1000 روپے مالک ذاتی استعمال کے لیے لے گیا۔ 20 جنوری کو ابراہیم سے مبلغ 2450 روپے نقد وصول کیے اور 50 روپے اسے نقد چھوٹ دے دی۔ 30 جنوری کو مبلغ 5000 روپے کرایہ ادا کیا۔

On 2019 January 1, Mr. Ahmad started business with cash Rs.100,000. On January 2, Purchased office furniture for cash Rs.5000. On January 3, Sold goods to Ibrahim Rs.3000. On January 4, Sold goods for cash Rs.10,000 subject to 5% trade discount. On January 5, Goods returned by Ibrahim Rs.500. On January 10, goods given away as charity Rs.2000. On January 15, cash withdrew by owner for personal use Rs.1000. On January 20, Received cash from Ibrahim Rs.2450 and allowed him discount Rs.50. On January 30, Paid rent Rs.5000  
(درج لکھئے)



5. Prepare bank reconciliation statement of Mr. Ashfaq Traders from following informations.

6- مسٹر اشفاق ٹریڈرز کی درج ذیل معلومات سے بینک کو شوارہ تطبیق تیار کریں۔

- (i) بینک کو شوارہ پر مبلغ 25 ہزار روپے بیلنس موجود ہے۔ (ii) غیر پیش شدہ چیک مبلغ 5 ہزار روپے کے ہیں۔ (iii) غیر وصول شدہ چیک 2 ہزار 5 سو روپے کے ہیں۔  
 (iv) مبلغ 5 سو روپے مقوم بینک نے وصول کیا جو کیش بک میں درج نہیں۔ (v) مبلغ 3 سو روپے سود بینک نے ڈیبٹ کر لیا۔ لیکن کیش بک میں درج نہیں۔  
 (vi) مبلغ 1 ہزار روپے بینک نے غلطی سے کریڈٹ کر دیا۔  
 (i) Balance as per pass book Rs.25000.  
 (ii) Un-presented cheques Rs.5000. (iii) Un-credited cheques Rs.2500 (iv) Dividend collected by bank Rs.500 but not recorded in cash book. (v) Interest debited by bank Rs.300 but not entered in cash book.  
 (vi) Wrongly credited by bank Rs.1000.

- 7- x نے y کو 30000 روپے مالیت کی اشیاء ادھار میں فروخت کیں۔ x نے چار بلن بحساب 7500 روپے فی بل بالترتیب دو ماہ، تین ماہ، چار ماہ اور پانچ ماہ کے لیے جاری کئے۔  
 x نے پہلا بل آخری تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔ اُس نے دوسرے بل پر 12% سالانہ کے حساب سے بینک سے بٹ گوا لیا۔ اُس نے تیسرا بل اپنے ایک قرض خواہ z کو منتقل کر دیا۔ اُس نے چوتھا بل بینک کو وصولی کے لیے بھیج دیا۔ y نے تمام بل اپنی مقررہ تاریخوں پر ادا کر دیے۔ مطلوب: x اور y کی کتابوں میں جنرل انٹریز پاس کریں۔  
 7. x sold goods to y worth Rs.30000 on credit basis. x drew on y four bills of Rs.7500 each at 2 months, 3 months, 4 months and 5 months respectively. x retained the first bill till the due date. He discounted the 2nd bill with his bank at 12% p.a. He endorsed the 3rd bill in favour of his creditor z. He sent the 4th bill to the bank for collection. All the bills are paid by y on their respective due dates. Required: Pass journal entries in the books of x and y.

- 8- درج ذیل کے بارے میں وجوہات کے ساتھ بتائیے وہ مرادی ہیں یا مالیاتی۔  
 (i) آفس میں ایئر کنڈیشننگ لگانے کا خرچ (ii) گاڑی کی مرمت کا خرچ (iii) خام مال کی خرید (iv) تسکات کے اجراء پر چھوٹ (v) آفس کے بجلی کے بل کی ادائیگی  
 (vi) اشیاء کی تلفی پر فروخت (vii) عمارت کی خریداری پر قانونی اخراجات (viii) ترقیاتی اخراجات (ix) پلانٹ کے خراب پرزوں کی تبدیلی کا خرچ  
 (x) سامان تجارت کی خرید پر اجرت کی ادائیگی  
 (i) Cost of air-conditioning the office (ii) Repair of motor car (iii) Cost of raw material  
 (iv) Discount on issue of debentures (v) Payment of electricity bill of office (vi) Profit on sale of goods  
 (vii) Legal expenses paid in connection with purchase of building (viii) Development expenses  
 (ix) Replacement of wornout part of plant (x) Wages paid for purchase of goods

- 9- درج ذیل معلومات سے تجارتی نفع و نقصان کا عمران کا کھاتہ اور بیلنس شیٹ برائے 31.12.2015 تیار کریں۔  
 9- Prepare trading profit and loss account and balance sheet of Imran for 31.12.2015

	DR (Rs)	CR (Rs)
Opening stock	58000	
Building	100000	
Purchases	286000	
Sundry debtors	139000	
Sales return	36000	
Carriage in	6000	
Salaries	16000	
Carriage out	8000	
Furniture	8000	
Cash in hand	5000	
Capital		100000
Sales		421000
Sundry creditors		120000
Purchase return		21000
	662000	662000

- ایڈجسٹمنٹ: (i) اختتامی ذخیرہ 81000 روپے (ii) فرسودگی عمارت پر 5% (iii) واجب الادا تنخواہیں 2000 روپے (iv) فرسودگی فرنیچر پر 10%  
 Adjustments: (i) Closing stock Rs.81000 (ii) Depreciation 5% on building (iii) Salaries pay able Rs.2000  
 (iv) Depreciation 10% furniture